

<http://www.SchoolQuran.com>

Quran Learning For Kids

<http://www.schoolquran.com/Quran-Learning-For-Kids.php>

Quran Learning For Women and Girls

<http://www.schoolquran.com/Quran-Learning-For-Women.php>

Quran Learning for All Family

<http://www.schoolquran.com/Quran-Learning-For-Family.php>

Learn Quran With Tajweed

<http://www.schoolquran.com/Learn-Quran-With-Tajweed.php>

Quran Courses

<http://www.schoolquran.com/Quran-Courses.php>

سلسلہ  
مواعظ حسنہ نمبر ۱۹

# حیات تقویٰ

عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دہانت کا تہم

کتاب خانہ مظہری

گلشن اقبال، پوسٹ بکس ۱۱۱۸۲

کراچی فون ۳۶۸۱۱۲ ۳۹۹۲۱۷۶

سلسلہ مواعظ حسنہ نمبر ۱۹

# حیات تقویٰ

عارف باللہ حضرت اقبال مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دہلی کا تہم

ناشر

کتاب خانہ مظہری

گلشن اقبال ۱۔ پوسٹ بکس ۱۱۱۸۲

کراچی فون ۳۶۸۱۱۲ ۳۹۹۲۱۷۶

## انتساب

احقر کی جملہ تصانیف و تالیفات درحقیقت مرشدنا و مولانا محی السنہ  
حضرت اقدس شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم اور حضرت اقدس  
مولانا شاہ عبدالغنی صاحب پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت اقدس  
مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صحبتوں کے فیوض  
و برکات کا مجموعہ ہیں۔

احقر محمد اختر مٹاوی


|             |   |  |
|-------------|---|--|
| نام و عہدہ  | = | حیات تقویٰ   |
| واعظ        | = | عارف باللہ حضرت مولانا شاہ محمد اختر صاحب دامت برکاتہم |
| جامع و مرتب | = | سید عشرت جمیل میر                                      |
| ناشر        | = | کتب خانہ مظہری   |

# فہرست

- ۴ \_\_\_\_\_ عرض مرتب
- ۷ \_\_\_\_\_ خون آرزو آفتاب نسبت کا مطلع ہے
- ۸ \_\_\_\_\_ تقدیم الہام فہمور علی تقویٰ کا راز
- ۸ \_\_\_\_\_ مادہ فہمور تقویٰ کا موقوف علیہ ہے
- ۹ \_\_\_\_\_ تقویٰ کے لیے تقاضائے معصیت کا وجود ضروری ہے
- ۹ \_\_\_\_\_ راہ حق کے غم کی عظمت
- ۱۱ \_\_\_\_\_ سوچوں کا شرعی حکم
- ۱۲ \_\_\_\_\_ نافرمان اعضاء کی بے وقعتی
- ۱۳ \_\_\_\_\_ تقویٰ کیا ہے؟
- ۱۳ \_\_\_\_\_ کام نہ کرو اور انعام لو!
- ۱۴ \_\_\_\_\_ متقی کسے کہتے ہیں؟
- ۱۴ \_\_\_\_\_ بیعت کی حقیقت
- ۱۵ \_\_\_\_\_ بیعت کی ایک حسی مثال
- ۱۶ \_\_\_\_\_ فرشتوں پر اولیاء اللہ کی فضیلت کا سبب
- ۱۶ \_\_\_\_\_ الہام فہمور و تقویٰ کی ایک عجیب مثال

- ۱۷ استزلال شیطان کا سبب کسبِ معصیت ہے \_\_\_\_\_
- ۱۸ جلد توبہ کرنے کا ایک عجیب فائدہ \_\_\_\_\_
- ۱۹ خطا کاروں پر حق تعالیٰ کی صفتِ کرم و صفتِ فضل کا ظہور \_\_\_\_\_
- ۲۰ تقرب الی اللہ کے دو راستے \_\_\_\_\_
- ۲۱ ایک راستہ تقویٰ ہے دوسرا راستہ توبہ ہے \_\_\_\_\_
- ۲۱ جاہ اور باہ دو مہلک بیماریاں \_\_\_\_\_
- ۲۲ آہ اور اللہ کا قرب \_\_\_\_\_
- ۲۳ کبر کا ایٹم بم اور اس کے اجزائے ترکیبی \_\_\_\_\_
- ۲۳ بطرالحق اور غمط الناس کبر کے دو جزو اعظم \_\_\_\_\_
- ۲۴ کفر سے نفرت واجب کافر کو حقیر سمجھنا حرام \_\_\_\_\_
- ۲۵ مجدد اعظم حکیم الامت تھانویؒ کی شانِ عبدیت و فنایت \_\_\_\_\_
- ۲۵ کبر کا بم ڈسپوزل اسکوڈ \_\_\_\_\_
- ۲۵ کبر سے نجات کا طریقہ \_\_\_\_\_
- ۲۶ نافرمانوں کو حقیر نہ سمجھنے کا طریقہ \_\_\_\_\_
- ۲۸ حصول تقویٰ کا آسان طریقہ \_\_\_\_\_
- ۲۸ عشقِ مجازی کے شدید بیماروں کے لیے نسخہ اصلاح \_\_\_\_\_
- ۲۹ علامہ خالد کردی کا واقعہ \_\_\_\_\_
- ۳۰ صفتِ صمدیت حق تعالیٰ کی احدیت کی دلیل ہے \_\_\_\_\_

- ۳۱ ————— تبدیل سنیات بالحنات پر مولانا رومی کی عجیب تمثیل
- ۳۲ ————— آفتاب ظاہری کا اثر نجاستوں پر
- ۳۳ ————— آفتاب رحمت حق کا اثر باطنی نجاستوں پر
- ۳۴ ————— نسبت مع اللہ کے آثار
- ۳۴ ————— نور تقویٰ کیسے پیدا ہوتا ہے؟
- ۳۵ ————— فلاح کے معنی



حضرت مجذوب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن  
 قبر میں ہو گا ٹھکانا ایک دن  
 منہ خدا کو ہے دکھانا ایک دن  
 اب نہ غفلت میں گنونا ایک دن  
 ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے  
 کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے

## عرض مرتب

بعض سالکین بوجہ لاپٹی کے گناہوں کے تقاضوں کو تقویٰ کے منافی سمجھتے ہیں اور اس وجہ سے ان تقاضوں سے سخت پریشان رہتے ہیں حتیٰ کہ شیطان ان کو بہکا تا ہے کہ ان تقاضائے معصیت کے ہوتے ہوئے تم اللہ والے نہیں ہو سکتے لہذا غیر صحبت یافتہ اور حقیقت دین و تصوف سے نا آشنا نہ جانے کتنے لوگ معصیت اور تقاضائے معصیت میں فرق نہ کر سکے اور بالوس ہو کر ان تقاضوں پر عمل کرنے لگے اور منزل قرب حق سے محروم ہو گئے۔

اللہ تعالیٰ عارف باللہ مرشدنا حضرت اقدس مولانا شاہ مکیم محمد اختر صاحب اطال اللہ بقاہم وادام اللہ فیوضہم کو جزائے جزیل اور اجر عظیم عطا فرمائے کہ پیش نظر و عنظ میں آپ نے نص قرآنی **فَاللَّهُمَّ كُفُّوا هَذَا تَقْوَاهَا** سے ثابت فرمایا کہ گناہوں کے تقاضے راہ سلوک میں قطعاً مضر نہیں! ان تقاضوں پر عمل کرنا مضر ہے بلکہ اگر یہ تقاضے نہ ہوں تو کوئی متقی ہو ہی نہیں سکتا کیوں کہ تقویٰ کے معنی ہی یہ ہیں کہ گناہ کا تقاضا ہو اور طبیعت پر جبر کر کے اس کو روکے اور اس روکنے میں جو نعم ہو اس کو برداشت کرے لہذا **آمَادَةٌ** فور معنی تقاضائے معصیت تقویٰ کا موقوف علیہ ہے اور تقویٰ کے لیے ان تقاضوں کا وجود ضروری ہے لہذا ان تقاضوں سے ہرگز نہ گھبرانا چاہیے۔ بس ان کے مقتضیاً پر عمل نہ کرے اور مادہ فحور کی دو قسمیں ہیں ایک جاہ دوسری جاہ۔ لہذا اگر ہم جاہ کا جیم اور جاہ کا باہ نکال دیں معنی ان کے تقاضائے غیر مرضیہ غیر شرعیہ پر عمل نہ کریں تو آہ رہ جائے گی اور ہماری آہ اور اللہ میں اتنا قرب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام پاک میں ہماری آہ کو شامل کر رکھا ہے۔ حاصل یہ کہ سالکین طریق تقاضائے

معصیت پر عمل نہ کریں تو مقرب باللہ ہو جائیں گے اور تقویٰ کے حصول کا طریقہ کُنُوزِ  
صَعِّ الصَّادِقِينَ ہے۔

حضرت والا کا یہ وعظ و اماندہ و مایوس سا لکین طریق کے لیے نسخہ کیسیا اور آفتاب  
امید ہے جس کو حضرت والا نے قرآنی آیات و احادیث پاک سے مدلل فرماتے ہوئے مثنوی  
رومی کی تمثیلات کے ساتھ اور خصوصاً اس دردِ دل اور سوزِ عشق کے ساتھ بیان فرمایا  
جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت والا کو خاص کیا ہے اور جو اس عظیم و نایاب درشہ کا  
حصہ ہے جو امت میں خال خال اویسا کو عطا ہوا۔ اللہ تعالیٰ احقر کو اور ہم سب کو حضرت والا  
کی معرفت نصیب فرماوے اور قدر کی توفیق عطا فرماوے اور حضرت والا کے سائے کو ہم سب  
پر طویل ترین مدت تک معصیت و عافیت دین کی عظیم الشان خدمت اور شرف قبولیت کے  
ساتھ قائم رکھے اور مجھ کو اور ہم سب کو حضرت والا کے دردِ دل اور سوزِ عشق اللہ تعالیٰ کی  
محبت کی تڑپ اور نسبتِ عظیمہ کو جذب کرنے کی صلاحیت و توفیق عطا فرمائے آمین!

حضرت والا دامت برکاتہم نے یہ وعظ مورخہ ۵ شوال الحکم ۱۴۱۴ ہجری مطابق ۱۸  
مارچ ۱۹۹۴ء بروز جمعہ المبارک بوقت ساڑھے گیارہ بجے صبح معمول مسجد اشرف کی  
محراب سے جائے عملی الکرسی ارشاد فرمایا اور بعد میں اس کو برادر عزیز مکرمی جناب سید احمد صاحب  
انجینئر خلیفہ حضرت والا دامت برکاتہم نے ٹیپ سے نقل کیا اور احقر راقم الحروف نے مرتب  
کیا اور اس کا نام حیات تقویٰ تجویز کیا گیا اور آج مورخہ ۱۴ ذوالحجہ ۱۴۱۵ھ مطابق ۳۱ مئی ۱۹۹۵ء  
بروز یکشنبہ طباعت کے لیے دیا جا رہا ہے۔ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

جامع و مرتب : احقر محمد عشرت جمیل میر عفا اللہ عنہ

یکے از خدام حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب امت برکاتہم

## حیات تقویٰ

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِ ۙ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ. أَمَا بَعْدُ  
فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا  
وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا

اللہ تعالیٰ نے اس سے قبل کی آیات میں آسمان اور زمین اور بڑی بڑی نشانیوں کی  
قسم اٹھانے کے بعد پھر نفس کی قسم اٹھائی۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا اور قسم ہے نفس کی اور  
اس ذات کی جس نے اس کو درست بنایا جس نے نفس کے اندر دونوں مادے رکھ دیئے  
فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اللہ نے نفس کے اندر گناہ کرنے کے تقاضے اور طاقت  
بھی پیدا کر دی اور متقی بننے کی صلاحیت بھی اس میں رکھ دی۔ اب انسان کے اختیار میں  
ہے کہ چاہے وہ نفس کی غلامی کر کے جہنم کا راستہ اختیار کر لے اور چاہے توہمت کر کے  
متقی بن کر اللہ کا ولی بن جائے۔ چاہے تو عبد الرحمن بن جائے، چاہے تو عبد الشیطان بن جائے  
یعنی شیطان کا بندہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ انسان چاہے تقویٰ کا راستہ  
اختیار کرے اور چاہے فجور کا راستہ اختیار کرے اسی اختیار پر جزا اور سزا ہے۔

اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کو بعد میں کیوں بیان فرمایا فَأَلْهَمَهَا  
فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا نافرمانی کے مادے کو پہلے بیان فرمایا جب کہ قاعدہ کے مطابق چھی  
چیز پہلے بیان ہونی چاہیے۔ مسجد میں آپ اچھا قدم یعنی واہنا قدم پہلے رکھتے ہیں۔ کھانا

داہنے ہاتھ سے کھاتے ہیں۔ ہر عمدہ چیز مقدم ہوتی ہے مگر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فخر کو مقدم فرمایا تقویٰ پر۔ اس میں ایک بہت بڑا راز ہے۔ اگر یہ راز معلوم ہو جائے تو کسی شخص کو اپنے گناہوں کے تقاضوں سے غم نہ ہو۔ گناہ کا تقاضا آپ کے لیے مضر نہیں ہے اس پر عمل کرنا مضر ہے۔ اگر تقاضا ہی نہ ہو تو آپ متقی ہو ہی نہیں سکتے۔

### خون آرزو آفتابِ نسبت کا مطلع ہے

کیونکہ تقویٰ نام ہے کہ گناہ کا تقاضا ہو، دل چاہے گناہ کرنے کو لیکن دل کو مار لو نفیس کی خواہش کو پورا نہ کرو۔ اپنی غلط آرزوؤں کا خون کر لو تو دل کے تمام آفاق، اُفتی، شرق اُفتی، غرب، اُفتی شمال، اُفتی جنوب دل کے چاروں اُفتی لال ہو جائیں گے۔ دنیا کا سورج تو ایک اُفتی سے نکلتا ہے یعنی مشرق سے لیکن اللہ ولے جب تقویٰ اختیار کرتے ہیں اور اپنی غلط آرزوؤں کا خون کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں غم اٹھاتے ہیں تو دل کے چاروں اُفتی شرق و غرب شمال و جنوب خون آرزو سے لال ہو کر چاروں طرف سے دل میں نسبت مع اللہ کا تعلق مع اللہ کا، اللہ کی ولایت اور دوستی کا سورج نکلتا ہے اور اگر غلط آرزو کا خون نہیں کیا تو پھر کیا ملے گا اندھیرے پر اندھیرے چڑھتے جائیں گے۔ غلاظت پر غلاظت چڑھتی جاتے گی۔ بد بو پر بد بو، بدنامی پر بدنامی، خوش نامی نہیں ملے گی۔ کوئی حضرت کئے والا پھر روئے زمین پر نہیں ہے گا۔ جب خلق کو معلوم ہو جائے گا کہ حضرت جو ہیں یہ بڑے حضرت ہیں۔ محاورہ میں کہتے ہیں کہ یہ بڑے حضرت ہیں بڑا استاد آدمی ہے۔ ذرا ان سے ہوشیار رہنا۔ اس سے اکرام کے القاب چھین لیے جاتے ہیں۔ گناہ کی ایک سزا دنیا میں یہ بھی ہے کہ اکرام اور عزت کے القاب چھین جاتے ہیں اور ذلت کے لقب ملتے ہیں۔

آپ بتائیے کہ اس دل کا کیا عالم ہوگا جس کے ہر اذی سے اللہ کے قرب کا سوج طلوع ہو رہا ہے۔ ایک صاحب کا نام ہے خورشید ایک دن وہ ملنے آئے تو میں نے یہ شعر کہا۔  
 خورشید کے دل کو جو ملاحظہ لقی خورشید  
 خورشید سے پوچھے کوئی خورشید کا عالم

### تقدیم الہام الفجور علی التقویٰ کا راز

اللہ تعالیٰ کا نفس کی قسم کھانا یہ دلیل ہے کہ کوئی بہت بڑا مضمون اللہ تعالیٰ بیان فرمانا چاہتے ہیں۔ ایک بڑے عالم و محدث کے ساتھ میں لاہور سے ریل میں کراچی آ رہا تھا۔ راستہ میں انہوں نے نماز فجر کی امامت کی اور یہی سورۃ تلاوت کی۔ نماز ہی میں یہ خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کو کیوں موخر فرمایا اور نافرمانی و فجور کے مادہ کو پہلے کیوں بیان فرمایا۔ میں نے ان عالم سے پوچھا تو ہنس کے فرمایا کہ تم ہی بتاؤ۔

### مادۃ فجور تقویٰ کا موقوف علیہ ہے

میں نے عرض کیا کہ میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈالی ہے کہ جس طرح سے بغیر وضو کے نماز نہیں ہو سکتی، بغیر موقوف علیہ پڑھے ہوئے بخاری شریف نہیں مل سکتی اسی طرح یہ مادۃ نافرمانی تقویٰ کا موقوف علیہ ہے۔ اگر یہ مادۃ نافرمانی کا نہ ہوتا تو اس کو روکنا کیسے ثابت ہوتا۔ ہر نئی اپنے منہی عنہ کے وجود اور اس کے ثبوت کے لیے ضروری ہے مثلاً میرے ہاتھ میں تسبیح ہے۔ میں کہتا ہوں کہ بھئی میرے ہاتھ میں جو تسبیح ہے اس کو مت دیکھنا۔ تو تسبیح کا وجود ضروری ہوا یا نہیں۔ اگر میرے ہاتھ میں تسبیح نہ ہو اور میں کہوں کہ

ہاتھ میں جو تسبیح ہے اس کو مت دیکھنا تو سب کہیں گے کہ غلط بات ہے۔ ہاتھ میں تسبیح ہے ہی نہیں۔

## تقویٰ کے لیے تقاضائے معصیت کا وجود ضروری ہے

تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ گناہ کے تقاضے کو روکو اور ہماری بات سنو، میرے غلام بن کر رہو۔ نفس نے تم کو نہیں پیدا کیا۔ میں نے تم کو پیدا کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تقاضائے معصیت کا وجود ضروری ہے جب ہی تو روکنے کے لیے فرما رہے ہیں۔ اگر تقاضائے گناہ نہ ہوتے تو تقویٰ کا وجود بھی نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ تقویٰ کے معنی ہیں کہ گناہ کا تقاضا ہو اور پھر اس کو روک کر اس کا غم اٹھالے۔

## راہ حق کے غم کی عظمت

اسی غم سے اللہ ملتا ہے۔ مگر افسوس ہے اور اس بات کو درد بھرے دل سے کہتا ہوں کہ ساری دنیا کے غم اٹھانے کے لیے انسان تیار ہے مگر اللہ کے راستہ کے غم سے گھبراتا ہے جب کہ اللہ کے راستہ کا غم اتنا معزز غم ہے کہ ساری دنیا کے سلاطین کے تخت و تاج ایک پلڑے میں رکھ دو۔ ساری دنیا کے یسلی و محبوبوں کا حُسن و عشق ترازو کے اسی پلڑے میں رکھ دو، ساری دنیا کی دولت اسی پلڑے میں رکھ دو، دنیا بھر کے شامی کباب اور بریانیوں کی لذت اسی میں رکھ دو اور ایک پلڑے پر اللہ تعالیٰ کے راستہ کا ایک ذرہ غم رکھ دو تو دنیا بھر کی خوشیاں، دنیا بھر کی لذتیں، دنیا بھر کے سلاطین کے تخت و تاج کے نشے اس ذرہ غم کی برابری نہیں کر سکتے۔ آہ علامہ سید سلیمان ندوی

کیا عمدہ شعر فرماتے ہیں۔

ترے غم کی جو مجھ کو دولت ملے

عسّم دو جہاں سے فراغت ملے

اللہ کی محبت کا ایک ذرّہ غم، ان کے راستہ کا ایک ذرّہ غم، گناہ سے بچنے کا غم اٹھانا ساری کائنات سے دونوں جہاں سے افضل ہے۔ اسی غم سے جنت ملے گی۔ یہ وہ غم ہے جو اللہ سے قریب کرتا ہے، یہ وہ غم ہے جو ولی اللہ بناتا ہے، یہ وہ غم ہے جو دنیا میں بھی سکون سے رکھتا ہے، یہ وہ غم ہے جو جنت تک پہنچائے گا۔ اب اس غم کی قیمت کون ادا کر سکتا ہے ساری دنیا کی خوشیاں اگر اللہ کے راستہ کے غم کو گارڈ آف آنر پیش کریں، سلام احترامی پیش کریں تو اللہ تعالیٰ کے راستہ کے غم کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ درد بھرے دل سے کہتا ہوں کہ اتنا قیمتی غم ہے ان کے راستہ کا۔ اسی غم سے خدا ملتا ہے میرا ایک شعر ہے۔

دامن فقر میں مرے پنہاں ہے تلج قیصری

ذرّہ درد و غم ترا دونوں جہاں سے کم نہیں

اگر یہ غم بندہ اٹھالے تو اللہ عالم نہیں ہے کہ ایک بندہ ہر وقت گناہوں کے تضحائوں سے پریشان ہو لیکن پھر بھی نافرمانی نہ کرے اور غم اٹھاتا رہے تو اللہ ارحم الراحمین ہے اس کے دریائے رحمت میں جوش آتا ہے کہ میرا بندہ میرے راستہ کا کتنا غم اٹھا رہا ہے۔ پہلے داڑھی نہیں رکھتا تھا اب داڑھی رکھ لی۔ سب مذاق اڑا رہے ہیں مگر کہتا ہے کہ کوئی پروا نہیں۔ میرا اللہ تو خوش ہے آج تم لوگ مذاق اڑالو قیامت کے دن انشاء اللہ تمہارے میرا مذاق نہیں اڑایا جائے گا۔

- ۱۷ استزلال شیطان کا سبب کسبِ معصیت ہے
- ۱۸ جلد توبہ کرنے کا ایک عجیب فائدہ
- ۱۹ خطا کاروں پر حق تعالیٰ کی صفتِ کرم و صفتِ فضل کا ظہور
- ۲۰ تقرب الی اللہ کے دو راستے
- ۲۱ ایک راستہ تقویٰ ہے دوسرا راستہ توبہ ہے
- ۲۱ جاہ اور باہ دو مہلک بیماریاں
- ۲۲ آہ اور اللہ کا قرب
- ۲۳ کبر کا ایٹم بم اور اس کے اجزائے ترکیبی
- ۲۳ بطرالحق اور غمط الناس کبر کے دو جزو اعظم
- ۲۴ کفر سے نفرت واجب کافر کو حقیر سمجھنا حرام
- ۲۵ مجدد اعظم حکیم الامت تھانویؒ کی شانِ عبدیت و فنایت
- ۲۵ کبر کا بم ڈسپوزل اسکوڈ
- ۲۵ کبر سے نجات کا طریقہ
- ۲۶ نافرمانوں کو حقیر نہ سمجھنے کا طریقہ
- ۲۸ حصول تقویٰ کا آسان طریقہ
- ۲۸ عشقِ مجازی کے شدید بیماروں کے لیے نسخہ اصلاح
- ۲۹ علامہ خالد کردی کا واقعہ
- ۳۰ صفتِ صمدیت حق تعالیٰ کی احدیت کی دلیل ہے

لسبا کرتے، اللہ والوں کی وضع اور الحمد للہ دل بھی اس کا اللہ والا بن گیا۔ اس کی باتیں سننے تو آپ حیران رہ جاتیں گے جیسے کوئی بہت بڑا عارف باللہ ہے لیکن غم اٹھایا کہ نہیں، اس کو غم تو اب تک ہے۔ کتا ہے کہ اب بھی اگر کہیں گانے کی آواز آتی ہے تو دل میں غم ہوتا ہے۔ دل چاہتا ہے کہ سن لوں لیکن نہیں سُنتا۔

## نافرمان اعضاء کی بے وقعتی

جس کو غم اٹھانے کی عادت نہ ہو، غم اٹھانے کا ارادہ ہی نہ ہو وہ ظالم اس راستہ میں بے کار ہے۔ اس کا قدم کیا ہے؟ اس قابل ہے کہ قطع کر دیا جاتے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو پیر اللہ کے راستہ میں نہ چلیں، خدا کی سجد کی طرف نہ جاتیں ان پیروں کا کٹ جانا بہتر ہے، جو ہاتھ اللہ کی عبادت میں لگیں، حجرِ اسود کا بوسہ نہ دیں، اللہ والوں سے مصافحہ نہ کریں ان ہاتھوں کا قطع ہو جانا بہتر ہے، جو کان اللہ کی بات نہ سنیں اس قابل ہیں کہ اکھاڑ دیتے جاتیں، جو آنکھیں اللہ تعالیٰ کے جلوہ کے قابل نہ ہوں، اللہ کی نافرمانی کرتی ہوں وہ آنکھیں نکال کر پھینک دینے کے قابل ہیں۔ جو اللہ کا نافرمان ہو وہ زندہ رہنے کے قابل نہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کسی کو مار ڈالیں یا آنکھ پھوڑ دیں یا کان کاٹ لیں۔ مطلب یہ ہے کہ عند اللہ ایسے شخص کی کوئی وقعت نہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا علم و کرم ہے کہ وہ موقع دیتے ہیں کہ شاید اب یہ توبہ کر لے، اب کر لے، اب کر لے۔ لیکن ہمارے ہمدرد علیٰ العصیت کی انتہا نہیں۔ اگر حق تعالیٰ عظیم نہ ہوتے تو ہمارا وجود نہ ہوتا۔

## تقویٰ کیا ہے

دوستو! یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کو پہلے بیان نہیں کیا۔ پہلے فرمایا  
 فَالْتَمِهَاتِ جُورَ كَمَا فِي مِثْلِ نَفْسِ تَقَا ضَعْفِ رَكَ دَسِيَّةٍ - اب تمہارا  
 کام ہے کہ اس تقاضے پر عمل نہ کرو تو خود بخود آیت کے اگلے جز پر تمہارا عمل ہو جائے گا۔ یعنی  
 تقویٰ پیدا ہو جائے گا۔ یہ مادہ فہمور یعنی نافرمانی کا مادہ تقویٰ کا موقوف علیہ ہے۔ تقویٰ حاصل  
 کرنا چاہتے ہو تو صرف گناہ چھوڑ دو گناہ کے تقاضوں پر عمل نہ کرو۔

## کام نہ کرو اور انعام لو!

اے دنیا کے ٹیکٹری والو! تم تو مزدوری کرا کے انعام دیتے ہو لیکن ہم تم سے تم انعام  
 لو کام نہ کر کے۔ چوری نہ کرو، ڈاکہ نہ مارو، جھوٹ منہ بولو، عورتوں کو مست دیکھو، حسینوں کو  
 مست دیکھو، کام نہ کر کے انعام تقویٰ اور میری دوستی کا انعام لے لو۔ کیونکہ تقویٰ کس چیز کا  
 نام ہے؟ تقویٰ نام ہے اس کا کہ گناہ کا تقاضا پیدا ہو اور پھر اس پر خدا کے خوف سے  
 عمل نہ کرے اور اس میں جو غم ہو اس کو برداشت کرے اور اس غم پر بچتا وا بھی نہ ہو کہ  
 آہ میں نے کیوں تقویٰ اختیار کیا۔ کاش ایک نظر دیکھ لیتا۔ یہ بچتا وا اور حسرت جب تک  
 ہے سمجھ لو کہ شیطان اس کی جہالت بنا رہا ہے، ابھی اس کا دل کچا ہے، ایمان خام ہے۔  
 ایمان کامل جب ہو گا کہ گناہ سے اپنے کو بچا کر، اس کا غم اٹھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے  
 خوشی سے مست ہو جائے۔

## مستی کسے کہتے ہیں؟

مستی وہ شخص ہے جو گناہ سے اپنے کو بچائے، اپنی نظر کو بچائے عورتوں سے حسینوں سے۔ اپنے کو جھوٹ سے بچائے، رشوت سے بچائے ماں باپ کے ساتھ بد سلوکی و بد تمیزی سے بچے، بیوی پر ظلم و زیادتی کرنے سے بچے پڑوسیوں کے حقوق میں ظلم کرنے سے بچے۔ ہر وقت جائز اور ناجائز پر عمل کرے اور پچھتائے بھی نہیں کہ کیا کہیں اسلام عجیب مذہب ہے کہ ہمیں ہر وقت جائز ناجائز کی مصیبت میں ڈال دیا۔ ارے ظالم مصیبت میں نہیں ڈالا اسلام نے مصیبت سے بچا لیا ورنہ اگر کھلے ساندے کی طرح کھیت میں منہ ڈالتا تو اتنی لاٹھیاں پاتا کہ جینا حرام ہو جاتا۔ ذرا دیہات میں جا کر دیکھ۔ جو ساندے ہر کھیت میں منہ ڈالتا ہے اس پر اتنی لاٹھیاں برستی ہیں کہ پیٹھ میں ایک انچ جگہ نہیں رہتی کہ سلامت ہو اور جب بیمار ہوتا ہے تو اس کا کوئی علاج کرنے والا نہیں ہوتا۔ جب مر جاتا ہے تو کوئی دفن کرنے والا نہیں ہوتا۔ چیل کوڑے کھا جاتے ہیں۔

## بیعت کی حقیقت

یہ بھی کوئی زندگی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے قید و بند سے آزاد ہوتا ہے اس کی زندگی بھی ایسی لعنتی اور بے کسی کی ہوتی ہے اور جو اللہ والا ہوتا ہے، اللہ والوں کے ہاتھ بکتا ہے وہ دراصل اللہ والوں کے ہاتھ نہیں بکتا، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ فروخت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر اپنے نمائندے رکھے ہوئے ہیں جو بندوں کو اپنے ہاتھوں پر خرید کر اللہ تک پہنچا دیتے ہیں۔

## بیعت کی ایک حسی مثال

جیسے وزیر اعظم کو گندم بھیجنا ہے تو کسانوں سے گندم خریدنے کے لیے وزیر اعظم نہیں آتا بلکہ ہر علاقہ کے ڈپٹی کمشنر کو اپنا نمائندہ بناتا ہے کہ کسانوں سے رابطہ قائم کر کے سرکاری پیسے سے ان کو ادائیگی کرو اور ان سے گندم خرید لو اور اسلام آباد بھیج دو۔ اسی طرح اللہ کے اللہ تعالیٰ کے نمائندے ہیں۔ بندوں کو خرید کر وہ اللہ تعالیٰ کے پاس بھیج دیتے ہیں۔ یعنی ولی اللہ بننے کا راستہ بتا دیتے ہیں جس پر چل کر وہ اللہ والا ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے لیے نہیں خریدتے، اللہ تعالیٰ کی بندگی سکھانے کے لیے بیعت کرتے ہیں۔ بیعت کے معنی ہیں بکنا دراصل وہ بکتا ہے اللہ کے ہاتھ۔ اللہ والوں کا ہاتھ نمائندہ ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں وہ اہل میں میرے نبی کا ہاتھ نہیں ہے، میرا ہاتھ ہے، يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ اللہ کا ہاتھ ہے وہ۔ لے صحابہ کچھ لو کہ تم میرے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جو بیعت کر رہے ہو وہ میرے نبی کا ہاتھ نہیں ہے يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ لے صحابہ تمہارے ہاتھوں پر بظاہر نبی کا ہاتھ ہے مگر اس ہاتھ میں دراصل میرا ہاتھ ہے۔ نبی کا ہاتھ میرا خلیفہ اور نمائندہ ہے۔ تو اسی طرح جو نائب رسول والے ہیں جب وہ بیعت کرتے ہیں تو ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، بیعت ہونے والا اللہ کے ہاتھ فروخت ہوتا ہے اسی لیے اہل اللہ کے گروہ میں شامل ہو کر جلد اللہ والا ہو جاتا ہے۔

تو عرض کر رہا تھا کہ گناہ کے تقاضوں سے پریشان نہ ہوں، یہ تقاضے آپ کی ولایت کے لیے میسر ہی ہیں۔ جس کو یہ تقاضے نہیں ہوں گے تو وہ ہی بھڑا ہو جائے گا۔ پھر ولایت

خاصہ مل ہی نہیں سکتی۔ اگر انسان بالکل صفر ہو جائے، کوئی تقاضا ہی اس میں پیدا نہ ہو تو ولی اللہ بھی نہیں ہو سکتا۔

## فرشتوں پر اولیاء اللہ کی فضیلت کا سبب

اولیاء اللہ فرشتوں سے اسی لیے بازی لے گئے، اسی لیے ان کا درجہ فرشتوں سے زیادہ ہے کہ ان کے دل میں گناہ کے تقاضے پیدا ہوتے ہیں لیکن یہ ان پر عمل نہ کرے دل پر غم اٹھا لیتے ہیں۔ فرشتے دیکھتے ہیں کہ ہم کو تو کوئی تقاضا نہیں ہوتا لیکن یہ بے چارے ہر وقت تقاضوں کا غم اٹھا رہے ہیں اور پھر بھی اپنے نفس کے کہنے پر عمل نہیں کر رہے ہیں اور اپنے اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ یہی تو ہے **قَالَ لَهُمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا** گناہ کے تقاضوں پر عمل نہ کرنے ہی سے تقویٰ عطا ہوتا ہے۔

## الہام فجور و تقویٰ کی دیاسلانی سے عجیب مثال

خیر و شر، تقویٰ و فجور کے دونوں مادے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھ دیئے اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے دل میں یہ عطا فرمائی کہ یہ مادے گویا ایک دیاسلانی ہیں۔ دیاسلانی خود بخود نہیں چلتی۔ جب اس سے تیلی رگڑتے ہیں تب آگ لگتی ہے۔ پس مادہ فجور و تقویٰ کی یہ دیاسلانی جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھ دی ہے اس کے ایک طرف خیر کا مادہ لگا ہوا ہے اور ایک طرف شر کا مادہ لگا ہوا ہے۔ دونوں صلاحیتیں اللہ نے ہمارے اندر رکھ دیں۔ فجور اور تافرمانی کا مادہ بھی رکھ دیا اور متقی بننے کی صلاحیت بھی رکھ دی مگر نہ شر میں آگ لگے گی، نہ خیر کا چراغ روشن ہوگا جب تک کہ ہم

دیا سلاتی سے تیلی رگڑیں گے نہیں اور دونوں کی تیلیاں موجود ہیں اور وہ تیلیاں کیا ہیں؟ آپ اہل تقویٰ کی صحبت میں رہنے لگے تو گویا آپ نے تقویٰ کی تیلی رگڑ دی۔ آپ تقویٰ کا چراغ روشن ہو جائے گا۔ گناہ کا تقاضا پیدا ہوا آپ نے ہمت کر کے تقاضے کو کچل دیا، اس پر عمل نہیں کیا تو آپ نے خیر کی تیلی کو رگڑ دیا اب تقویٰ کا نور پیدا ہو گا لیکن اگر بد نظری کر لی، نامحرموں کے پاس اٹھنے بیٹھنے لگے، حسینوں سے دل بہلانے لگے تو سمجھ لیجئے کہ ہمارے اندر شر کا جو مادہ ہے **فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا** اس تیلی کو آپ نے رگڑ دیا لہذا اب شر کی آگ پیدا ہوگی۔ اب عشق مجازی کی آگ میں جل رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، پریشان ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ظلم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ظلم سے پاک ہیں، یہ تو خود ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا کہ کیوں تیلی رگڑی۔ گناہوں کے تقاضوں سے کچھ نہیں ہوتا لیکن جبر پڑا جاتا ہے اسی پر کپڑا جاتا ہے کہ تم نے تیلی کو رگڑا کیوں یعنی کیوں گناہ کے تقاضوں پر عمل کیا جب کہ ہم نے نفس کی خواہشات کو روکنے کا حکم دیا کہ **اَلسَّامِ وَفُجُورٍ تَوَجَّهْتُمْ لَهَا وَنُجُورٍ** لیکن خبردار نافرمانی و فوجور کے تقاضوں پر عمل نہ کرنا۔ ماچس سے کچھ نہیں ہوتا، تم اس پر تیلی مت رگڑو۔ گناہ کے تقاضوں سے کچھ نہیں ہوتا، یہ تقاضے کچھ مضر نہیں بس تم ان پر عمل نہ کرو اور تقاضوں کے اشد کے اسباب اختیار نہ کرو ورنہ اس مادہ میں رگڑ لگ جائے گی۔ پیر داڑھی اور گول ٹوپی کے باوجود یہ شخص حسن کے پیچھے بھاگتا چلا جائے گا۔ یہ وہ خطرناک مرض ہے کیوں کہ نظر بازی کر کے اس نے اپنے اوپر سے اللہ کی رحمت کا سایہ ہٹا دیا اور اللہ کی لعنت کے تحت آگیا۔

استزلال شیطان کا سبب کسب معصیت ہے

اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں **اِنَّهَا اسْتَزَلَّتْهُمْ الشَّيْطٰنُ بِبَعْضِ مَا**



گناہ ہو جائیں گے۔ لہذا جلد ہی توبہ سے اور اشکِ ندامت سے پھر دل کو روشن کر لو۔ علامہ آوسی فرماتے ہیں اذا استنارت القلوب بنور الندامة والتوبة جب ندامت اور توبہ کے نور سے دل روشن ہو جائے گا تو گناہ کے اندھیرے میں شیطان نے جو ہیدکواٹر بنایا تھا اسے چھوڑ کر بھاگ جاتے گا۔ جیسے چمگاڈر اندھیرے میں رہتا ہے ابلیس کا مزاج بھی یہی ہے کہ گناہوں کے اندھیرے میں رہتا ہے اگر توبہ میں دیر کی تو شیطان دیر تک رہے گا۔ کیا دشمن کو دیر تک اپنے گھر میں آپ رکھنا چاہتے ہیں؟ لہذا اگر خطا ہو گئی تو جلد ہی سے توبہ کرنی چاہیے تاکہ ندامت اور استغفار و توبہ کے نور سے دل منور ہو جائے اور ابلیس جلد بھاگ جائے۔

## خطا کاروں پر حق تعالیٰ صفتِ کرم و صفتِ فضل کا ظہور

آہ! اس جگہ اس آیت کی تفسیر میں علامہ آوسی رحمۃ اللہ علیہ نے سلطان ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ نقل کیا ہے۔ یہ وہ سلطان ہے کہ جس نے سلطنتِ خُدا پر خدا کی اور دس سال غارِ نیشاپور میں عبادت کی۔ اسی کی برکت سے آج اس کے واقعہ سے اللہ کے کلام کی تفسیر پیش کی جا رہی ہے۔

اب مرنا نام بھی آئے گا ترے نام کے ساتھ

دنیا میں بہت سے بادشاہ مگر سلطنت چھوڑ گئے لیکن ان کو کوئی رحمۃ اللہ علیہ نہیں کہتا لیکن اس سلطان نے جیتے جی اللہ کے نام پر سلطنت چھوڑ کر فقیر سی اختیار کی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عزت دی کہ آج اولیاء اللہ کی زبان پر ان کا تذکرہ ہے اور تفسیرِ روح المعانی کے چوتھے پارے میں علامہ آوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلطانِ عرشِ نخت، تارکِ تخت کا تذکرہ کیا ہے

فرماتے ہیں کہ غار نیشاپور میں دس سال عبادت کرنے کے بعد سلطان ابراہیم ابن ادھم حج کرنے آئے تو طواف کرتے ہوئے انہوں نے ایک درخواست کی اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ الْعِصْمَةَ لے اللہ میں آپ سے معصومیت چاہتا ہوں معنی میں بالکل معصوم ہو جاؤں کہ مجھ سے گناہ کبھی نہ ہو۔ دل میں آواز آئی کہ لے سلطان ابراہیم ابن ادھم میں جانتا ہوں کہ تو نے میری محبت میں سلطنت فدا کی ہے اور میں تیری محبت کی قدر کرتا ہوں لیکن جو سوال تو کر رہا ہے ساری دنیا کے انسان میرے دروازہ پر یہی سوال کر رہے ہیں۔ کُلُّ عِبَادٍ یَسْتَلُوْنَهُ الْعِصْمَةَ ہر انسان حج کرنے آتا ہے مجھ سے یہی کہتا ہے کہ لے اللہ مجھے معصوم کر دے کہ آئندہ مجھ سے کبھی گناہ صادر ہی نہ ہو لیکن لے ابراہیم اگر ہم سب کی دُعا قبول کر لیں اور سب کو معصوم کر دیں تو ساری دنیا تو ہو گئی معصوم فَعَلٰی مَنْ یَّتَکَبَّرُ عَلٰی مَنْ یَّتَقَضَّلُ تو پھر میں کس پر مہربانی کروں گا اور کس پر کرم کروں گا۔ میری صفت کرم اور صفت فضل اور صفت مغفرت کس پر ظاہر ہوگی۔ یہ درخواست کرو کہ لے اللہ مجھ کو گناہوں سے محفوظ فرما اور توفیق دے دے توبہ کی اور استقامت کے ساتھ رہنے کی اور اگر پھر بھی خطا ہو جائے تو پھر توبہ کر لو۔

## تقرب الی اللہ کے راستے

حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد علامہ اسفرائینی رحمۃ اللہ علیہ نے تیس سال تک دُعا مانگی کہ لے اللہ مجھے معصوم کر دیجئے، عصمت دے دیجئے کہ مجھ سے بس کبھی خطا نہ ہو۔ یہ بھی ان کا ایک مقام تھا۔ یہ دُعا وہی مانگے گا جو اللہ کی نافرمانی نہیں چاہتا۔ ایک دن ان کے دل میں خیال آ گیا کہ باوجود کریم ہونے کے اللہ تعالیٰ نے

تیس سال تک میری دعا قبول نہیں کی۔

## ایک اتہ تقویٰ ہے اور دوسرا راتہ توبہ ہے

آسمان سے آواز آئی کہ اے اسفرائینی تو مجھ سے عصمت مانگتا ہے جب کہ میں نے اپنا ولی اور محبوب بنانے کے دو راستے رکھے ہیں ایک تقویٰ کا راستہ، ایک توبہ کا راستہ کیا تو نے قرآن پاک میں نہیں پڑھا، اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ اللّٰهُ تَعَالٰی توبہ کرنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے جب دو کھڑکیاں ہیں تو تو ایک کھڑکی کیوں مقرر کر رہا ہے۔ اگر برپنائے بشریت خطا ہو جائے تو توبہ کے راستے سے میرے قریب آجا۔ جان بوجھ کر خطا نہ کر لیکن جب کچھ زیادہ ہو جاتی ہے تو کبھی باتھی بھی پھیل جاتا ہے۔ لہذا اگر خطا ہو جائے تو توبہ کر کے میرا محبوب بن جا۔ تو تقویٰ کے دروازے ہی سے کیوں آنا چاہتا ہے جب کہ میں نے دوسرا دروازہ توبہ کا بھی کھولا ہوا ہے۔ جب میں نے دو دروازے کھولے ہیں تو اپنے لیے ایک دروازہ کیوں مقرر کرتا ہے۔ توبہ کے راستے سے میرا محبوب بن جا۔ گناہ سے محفوظ ہونے کی دعا کرو مصوم بننے کی دعا مت کرو۔

## جاہ اور باہ دو مہلک بیماریاں

لہذا اگر خطا ہو جائے تو توبہ میں دیر نہ کرو اور گناہوں سے بچنے میں جان کی بازی لگا دو۔ دو جہلوں میں پورا سلوک عرض کر رہا ہوں۔ دو ہی بیماریاں ہیں جو سالک کو اللہ سے دور رکھتی ہیں۔ ایک جاہ دوسری باہ۔ کہتے ہیں قوت مردانگی، شہوت، خواہش جس سے مغلوب ہو کر انسان بد نظری زنا اور شہوت کے گناہوں میں مبتلا ہو کر اللہ سے دور

ہو جاتا ہے۔ جاہ کتے ہیں کبر و عجب بڑائی، مخلوق میں شہرت و عزت چاہنا۔ ان دو بیماریوں کو اگر انسان نکال دے تو اللہ والا ہو جائے۔

## آہ اور اللہ کا قرب

بس جاہ کا جیم نکال دو اور باہ کا باہ نکال دو۔ پھر کیا رہ جائے گا؟ آہ اور آہ کو اللہ سے اتنا قرب ہے کہ جب اللہ کہو گے تو اپنی آہ کو اللہ میں پاؤ گے۔ ہماری آہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نام پاک میں شامل کر رکھا ہے تاکہ جاہ اور باہ نکالنے کے مجاہدہ میں ان کو غم ہو تو اپنی آہ کو میرے نام میں پالیں۔ بتائیے دو جملوں میں پورا تصوف آگیا یا نہیں کہ جاہ کا جیم اور باہ کا باہ نکال دو۔ اب جاہ اور باہ دونوں مسلمان ہو گئے۔ دل سے اپنی بڑائی نکال دی اور شہوت کے تقاضوں پر غالب ہو گئے تو سمجھو کہ جاہ کا جیم نکال دیا اور باہ کا باہ نکال دیا۔ یہی وجہ نہیں ہیں جو انسان کو مردود اور شیطانوں کی چال پر چلا کر اللہ سے دور کرتی ہیں۔ کوئی کبر سے ہر وقت اپنے کو بڑا سمجھتا ہے، کوئی ٹیڈیوں کے پکر میں ہے اس کو قوت مردانگی اور باہ نے مغلوب کیا ہوا ہے۔ حاجی امداد اللہ صاحب شیخ العرب و البصر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نفس کی تمام بیماریوں میں اصل دو ہی تو ہیں، باقی سب اس کی شاخیں اور برانچ ہیں ایک جاہی ایک باہی جاہ کے معنی ہیں اپنے کو بڑا سمجھنا۔ بس اس کو مٹا دو۔ ابھی کیسے فیصلہ کرتے ہو کہ ہم بڑے ہیں یہ فیصلہ تو قیامت میں اللہ کرے گا۔ ہماری قیمت اللہ لگائے گا جو غلام اپنی قیمت خود لگاتا ہے حق پاگل اور بے وقوف ہے۔ علامہ سید سلیمان ندوی سے سیکھے۔ کیا فرماتے ہیں؟

ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے  
وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے

جب میدان قیامت میں اللہ قیمت لگا دے تو ان کے کرم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے جنت میں چلے جاؤ۔ مگر دنیا میں اپنی قیمت لگانے والا جو کسی بھی انسان سے اپنے کو بہتر سمجھتا ہے تکبر ہے۔

## کبر کا ایٹم بم اور اس کے اجزائے ترکیبی

سرور عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں ایک سرسوں کے دانہ کے برابر بڑائی ہوگی وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ جنت میں جانا تو درکنار اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی لَا يَجِدُ رِيحَهَا جنت کی ہو بھی نہ پائے گا تو آپ بتاتے کبر کا یہ ٹیریل جس کی خبر سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دی اتنا بڑا ایٹم بم ہے کہ جس سے انسان جنت سے محروم ہو جاتے اس کی ہو بھی نہ پائے اس کا نام کبر ہے۔ لہذا اس کی فکر ہونی چاہئے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ ایٹم بم ہمارے دل میں ہو اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے۔ لہذا بم ڈپوزل اسکوڈ یعنی اہل اللہ سے مشورہ کر لیں کہ دل کے کسی کونے میں کیس ایٹم بم تو نہیں ہے

## بَطْرُ الْحَقِّ اور غَمَطُ النَّاسِ کبر کے دو جزو اعظم

تکبر کیا ہے؟ اس کے اجزائے ترکیبی سے سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مطلع فرمادیا بَطْرُ الْحَقِّ وَغَمَطُ النَّاسِ حق بات قبول نہ کرنا کبر ہے جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے، کچھ بھی کہتے رہو، ہم عمل نہیں کریں گے۔ ہم مولویوں کی بات نہیں سنتے۔ حق بات جانتا ہے، دل کھ رہا ہے کہ یہ شخص حق بات کہہ رہا ہے مگر اس کو قبول نہ کرے یہ تکبر ہے اور دوسری علامت ہے غَمَطُ النَّاسِ۔ الناس کا لفظ سن لیجئے

سومن نہیں فرمایا الناس فرمایا۔ لہذا اگر کسی کافر کو بھی حقیر سمجھتا ہے تو کبر آگیا اور وہ سزا کے لائق ہو گیا۔ جنت کی خوشبو بھی نہیں پاتے گا۔ اب آپ کہیں گے کہ بھلا کافر کو بھی ہم حقیر نہ سمجھیں! تو خوب سمجھ لیجئے کہ کافر کے کفر سے بغض رکھنا فرض ہے مگر کافر کو حقیر نہ سمجھنا حرام ہے۔ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ مرتے دم اس کو کلمہ نصیب ہو جائے اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہو۔

### کفر سے نفرت واجب کافر کو حقیر سمجھنا حرام

مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ہندو بننے کو خواب میں دیکھا کہ جنت میں مثل رہا ہے۔ پوچھا کہ لالہ جی! تو کہاں سے جنت میں آگیا اس نے کہا کہ مولوی صاحب مرنے دم ان کہی کہہ لی تھی یعنی کلمہ پڑھ لیا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہندو کلمہ کو ان کہی کہتا ہے یعنی نہ کہنے والی بات لیکن اللہ تعالیٰ کی توفیق ہو گئی۔ عمر بھر رام رام کیا تھا مگر مرتے وقت کام بن گیا۔ کافر کو بھی حقیر سمجھنا اسی لیے حرام ہے۔ نہ معلوم خاتمہ کیسا لکھا ہوا ہے۔  
مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں

ہیچ کافر را بہ خواری مسگریہ

کہ مسلمان بودنش باشد امید

جیسی کافر کو بھی ذلیل مت سمجھو، حقارت سے مت دیکھو کیونکہ مرنے سے پہلے اس کے مسلمان ہو جانے کی امید ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر لکھا ہو اور اپنے بارے میں سوچو کہ نہ معلوم علم الہی میں خاتمہ کیسا لکھا ہوا ہے۔ کیا گارنٹی کیا ضمانت ہے۔

## مجدد اعظم حکیم الامت تھانوی کی شانِ عبدیت و فناءیت

اس لیے حکیم الامت فرماتے ہیں کہ اشرف علی اپنے کو ساری دنیا کے مسلمانوں سے فی الحال بدترین سمجھتا ہے یعنی موجودہ حالت میں ہر مسلمان کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی عمل اللہ کے یہاں مقبول ہو اور میرا کوئی عمل قبول نہ ہو اور اللہ ناراض ہو ہمیں کیا پتہ ہے اور فرماتے تھے کہ ساری دنیا کے کافروں سے اور ساری دنیا کے جانوروں سے سو اور گتوں سے اشرف علی اپنے کو بدتر اور کتر سمجھتا ہے فی المال یعنی انجام کے اعتبار سے اپنے کو کتر سمجھتا ہوں کہ نہیں معلوم میرا خاتمہ کیسا ہوگا اور جب خاتمہ کا علم نہیں تو بھی اپنے کو کیسے بہتر سمجھوں۔ سبحان اللہ! حضرت کے کیا علوم ہیں اور الفاظ میں بھی کیا نور ہے۔ مسلمانوں سے اپنے کو کتر سمجھتا ہوں فی الحال اور کافروں اور جانوروں سے بدتر سمجھتا ہوں فی المال۔ اور فرمایا کرتے تھے کہ جب خیال آتا ہے تو دل لرز جاتا ہے کہ نہ جانے قیامت کے دن اشرف علی کا کیا حال ہوگا اور فرماتے تھے کہ جہاں اہل جنت جو تیاں اُتاریں گے اگر اشرف علی کو ان کی جوتیوں میں جگہ مل جائے گی تو میں اس کو غنیمت سمجھوں گا اور اس کا بھی مجھے استحقاق نہیں بلکہ یہ اس لیے ہے کہ دوزخ کا عمل نہیں اور ایک ہم ہیں کہ جنت کی ٹھیکیداری لیے ہوئے ہیں۔ چند رکعات نفل پڑھ کر سمجھتے ہیں کہ بس جنت کے مالک ہو گئے یہ حماقت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔

## کبر کا بم ڈسپوزل اسکوڈ

اس لیے دوستو! کبر کا مرض جب اتنا خطرناک ہے کہ جنت کی خوشبو بھی نہ ملے گی

حج عمرہ تمجد اشراق سب کچھ ہوتے ہوئے بھی جنت کی خوشبو نہیں پائے گا اور یہ ارشاد سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ جب یہ اتنا خطرناک کم ہے کہ آدمی جنت سے محروم ہو جائے تو پھر آپ کیوں ہم ڈیپوزل اسکواڈ سے نہیں ملتے۔ وہ کون ہیں؟ وہ اللہ والے مشائخ و بزرگان دین ہیں۔ ان سے پوچھئے کہ میرے اندر کبر تو نہیں ہے۔ ان کے پاس رہیں گے تو وہ خود بتا دیں گے انشاء اللہ۔ حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں کہ جب خانقاہ میں کوئی قدم رکھتا ہے اور ایک نظر اس کو دیکھتا ہوں تو اس کی ساری بیماریاں دل میں آجاتی ہیں جیسے ایک سرے جو جاتا ہے کہ اس میں کبر ہے، اس کی آنکھوں میں شہوت کا اثر ہے، یہ حسینوں کی تاک جھانک کرتا ہے۔ پہلی ہی نظر میں سب پتہ چل جاتا ہے۔ جن سے اللہ تعالیٰ تزکیہ و اصلاح کا کام لیتے ہیں ان کو یہ ملکہ بھی عطا فرماتے ہیں۔

## کبر سے نجات کا طریقہ

لذا دو چیزوں سے بچئے۔ نمبر ایک اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھتے اور ساری دُنیا کے انسانوں سے اپنے کو کتر سمجھتے تو گویا آپ غَمَط النَّارِ سے بچ گئے اور احتیاطاً کبھی کبھی صبح و شام زبان سے کُہ بھی لیجئے کہ اے اللہ میں تیرے سارے مسلمان بندوں سے فی الحال کتر ہوں اور تیرے تمام کافروں اور جانوروں سے بدتر ہوں فی الحال یعنی انجام کے اعتبار سے۔ اگر زبان سے آپ کہتے رہیں گے تو انشاء اللہ دوسروں کی حقارت دل میں نہیں آئے گی اور دوسرے یہ کہ حق بات قبول کر لیجئے۔ جب معلوم ہو جائے کہ فلاں بات حق ہے اس کو فوراً قبول کر لیں بس تکبر سے پاک ہو گئے کیونکہ کبر کے اجزائے ترکیبی اور ٹیڑھیل میں یہی دو باتیں تھیں اور دونوں سے آپ نجات پا گئے۔ جو حق بات کو قبول کر لے اور اپنے کو بڑا نہ سمجھے

وہ کبر سے پاک ہے۔

## نافرمانوں کو حقیر نہ سمجھنے کا طرہیت

کسی انسان کی چاہے کتنی ہی خراب حالت ہو، کوئی کتنا ہی زانی شرابی ہو حقیر نہ سمجھتے۔ آپ کہیں گے کہ کافروں سے اور نافرمانوں سے تو نفرت ہوتی ہے۔ نفرت اور بغض کافروں نافرمان کے عمل سے کرو۔ کافروں کے کفر سے، فاسقوں کے فسق سے نفرت و بغض رکھنا واجب ہے یعنی عمل سے نفرت کرو عامل سے نہ کرو۔ فعل سے نفرت کرو اس کے فاعل سے نفرت نہ کرو۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ تو بہت مشکل ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بہت آسان ہے جیسے کوئی شہزادہ جس کا چہرہ چاند کی طرح سے ہو لیکن روشنائی لگا کر آتے تو آپ شہزادہ کو حقیر سمجھیں گے یا اس کے روشنائی لگانے کے فعل کو؟ شہزادہ کو حقیر نہیں سمجھیں گے کیونکہ جانتے ہیں کہ شہزادہ ہے، نہ معلوم کب چہرہ کو دھولے اور چاند کی طرح چمک جاتے۔ بس اس سے سمجھ لیجئے کہ فعل سے نفرت کیجئے لیکن فاعل کو حقیر نہ سمجھتے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ابھی توبہ کر کے ایمان لا کر ولی اللہ ہو جاتے۔ البتہ جس کو نافرمانی میں مبتلا دیکھے تو دعا کر لے کہ یا اللہ ان کے فعل سے ہم کو محفوظ فرما اور یہ دعا بھی پڑھ لے۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي فِيهِمَا اِبْتِلَاءَكَ بِهِ وَفَضَّلَنِي عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْتَ تَفَضُّلًا شَكَرْهُ لَكَ خَدَا اَبِيْ نَبِيْ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اگر کبھی کسی کو دیکھو اور اول تو دیکھو ہی نہیں لیکن کبھی نظر پڑ جائے کہ کوئی کسی ٹیڈی کو دیکھ رہا ہے تو فوراً اپنی نظر پچا کر کہو کہ اے اللہ آپ کا احسان ہے کہ آپ نے مجھے اس مصیبت سے بچایا ہوا ہے، اس روحانی بیماری سے محفوظ رکھا ہے۔

## حصول تقویٰ کا آسان طریقہ

اب میں آپ سے اپنے شیخ و مرشد شاہ عبد انبی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات عرض کرتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا کمال رحمت ہے کہ جہاں تقویٰ فرض کیا تقویٰ کو آسان کرنے کا نسخہ بھی بیان کر دیا۔ وہ کیا ہے۔ کُونُوا صَعَّ الصَّادِقَاتِ اہل تقویٰ کے ساتھ رہو۔ دیکھتا ہوں کب تک گناہ کرو گے۔ ان کے ساتھ رہتے رہتے ایک دن مزاج بدل جائے گا۔ پہلے جو بھنگی پاڑہ میں رہتا تھا لیکن اب باغ میں رہتا ہے پھولوں میں رہتا ہے، چنبیلی اور گلاب کے درمیان رہتا ہے اس کا مزاج بھنگی پن کا ختم ہو جاتا ہے۔ پھر وہ بھنگی پاڑے میں جا کر گویا کافر نہیں سونگھے گا۔ ہمت سے کچھ دن تک بھنگی پاڑہ جانا چھوڑ دو۔

## عشق مجازی کے شدید بیماروں کے لیے نسخہ اصلاح

اگر خانقاہ سے نکلنے میں خطرہ ہے کہ نفس پھر بھنگی پاڑہ لے جائے گا اور گناہ کرا دے گا تو سال دو سال کے لیے باہر نکلنا چھوڑ دو۔ کوئی رشتہ دار ہو، کوئی ہو سب کو اللہ پر فدا کر دو اور کہہ دو کہ وہی یہاں آ کر مل لیں وہ کچھ بھی کہتے رہیں کہ اللہ کا راستہ بہت مشکل ہے کسی کی پروا نہ کرو۔ پھر یہی رشتہ دار آپ کے قدم چوم لیں گے جب تقویٰ کا تاج آپ کے سر پہ ہوگا، آپ کی آنکھوں سے نور تقویٰ ٹپکے گا زبان سے تقویٰ کی خوشبو ظاہر ہو جائے گی۔ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وِدًّا اللہ تعالیٰ وعدہ کرتے ہیں کہ جو گناہ چھوڑ دے، میرا بن جائے میں اس کو خود محبوب کر دوں گا۔ اس کو کوئی تعویذ

کبھی تسخیر کے عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ جب وہ میرا بن گیا تو اب میرا کام ہے کہ میں مخلوق میں اس کو محبوب کر دوں۔ تم یہ کیوں سمجھتے ہو کہ لوگ کہیں گے کہ اللہ کا راستہ سخت ہے۔ کہ دو کہ میں مریض ہوں، میرے شیخ نے تجویز کیا ہے کہ دو سال تک خانقاہ سے نہ نکلو۔

### علامہ خالد کردی حرمہ اللہ علیہ کا واقعہ

دیکھتے علامہ خالد کردی، ملک شام کے اتنے بڑے عالم شاہ غلام علی صاحب کی خانقاہ میں چلہ کھینچنے آتی آئے۔ شاہ غلام علی صاحب حضرت مرزا منظر جاں جاناں کے خلیفہ تھے۔ ان سے ملاقات کے لیے شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی تشریف لاتے۔ علامہ خالد کردی نے ان کو پرچہ لکھ بھیجا کہ اس وقت میں اپنے شیخ کی خدمت میں چلہ کر رہا ہوں اس وقت میں شیخ کے علاوہ کسی اور طرف توجہ نہیں کر سکتا۔ میں چلہ کی تکمیل کر لوں پھر خود آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ یہ ہے اصلاح کا منصب کہ شیخ جو کہ دے اس پر عمل کرو۔ کچھ بھی ہوتا رہے۔ جب تک ساری مخلوق کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنی تجارت گاہوں کو، اپنی آرزوؤں کو اللہ کی مرضی پر فنا نہ کرو گے اللہ نہ ملے گا۔ خود کو رضیات اللہیہ کے تابع کر دو پھر دیکھو کیا ملتا ہے۔ جو شخص عشق مجازی کے بہت ہی شدید مریض ہیں مرض کی انتہا تک پہنچے جوتے ہیں ان کے لیے کہتا ہوں کہ دو سال تک خانقاہ میں رہیں باہر نہ نکلیں پان کھانے بھی باہر نہ نکلیں یہیں منگوائیں۔ پھر دیکھتے کہ اللہ دالے ہوئے کہ نہیں، اب اگر کوئی پھولوں میں رہتا ہے لیکن درمیان میں جھگی پاڑہ بھی جاتا رہے تو گلشن کہاں تک اس کا مزاج بدلے گا۔ مہینے دو مہینے چار مہینے میں کسی بہانہ سے خانقاہ سے نکل گئے کہ میرا فلاں رشتہ دار بیمار ہے، پردیس سے میرا بھائی آیا ہوا ہے اور گناہوں کے آڈوں پر



شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دلیل ہے اَللّٰهُ الصَّمَدُ کیونکہ اشتراک دلیل احتیاج ہے۔ مشترک حکومت قائم کرنا، لمیٹڈ فرم قائم کرنا یہ محتاجی ہوتی ہے جب اکیلا آدمی نہیں چلا سکتا تب لمیٹڈ فرم قائم کرتا ہے۔ اشتراک ہمیشہ احتیاج کی دلیل ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس لیے اشتراک نہیں کرتا ہوں، اپنا کوئی شریک نہیں رکھتا ہوں کیونکہ میں صمد ہوں۔ صمد کے کیا معنی ہیں؟ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صمد کی تفسیر فرماتے ہیں اَلْمُسْتَغْنٰی عَنْ كُلِّ اَحَدٍ جو ساری کائنات سے مستغنی ہو اَلْمُحْتَاجُ اِلَيْهِ كُلُّ اَحَدٍ اور سارا عالم اس کا محتاج ہو۔ کیونکہ میں سارے عالم سے بے نیاز ہوں اور سارا عالم میرا محتاج ہے پس یہ عدم احتیاج میرے احد ہونے کی دلیل ہے۔ میری احدیت کی دلیل میری صمدیت ہے۔ اس لیے میرے سوا کوئی خدا نہیں ہو سکتا۔ کیا کہیں کیسا شیخ تھا۔ یہ الہامی علوم ہوتے تھے میرے شیخ کے۔ کیا عجیب علم ہے کہ احدیت کی دلیل یہی صمدیت ہے۔ اللہ اس لیے واحد ہے کہ اس کو اشتراک کی احتیاج نہیں ہے۔ اس کا صمد ہونا یعنی اشتراک کا محتاج نہ ہونا دلیل ہے اس کے احد ہونے کی۔ یہی دلیل پیش کر دی کہ چونکہ میں سارے عالم سے بے نیاز ہوں اور سارے عالم کو اپنا نیار مند و محتاج رکھتا ہوں یہ میری صمدیت دلیل ہے میری احدیت کی۔ سبحان اللہ کیا علوم اور کیا دلائل ہوتے تھے میرے شیخ کے کہ مزہ آجاتا تھا۔

## تبدیل سیات بالחסات پر مولانا رومی کی عجیب تمثیل

خیرات میں مولانا رومی کی ایک بات پیش کر کے بیان ختم کرتا ہوں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمارے اندر مادۃ نافرانی رکھ دیا تو مادۃ تقویٰ

بھی رکھ دیا۔ اس کی ایک مثال پیش فرماتے ہیں کہ اگر جنگل میں گوبر پڑا ہوا ہے اور سورج کی شعاعوں سے خشک ہو گیا جس کو کسی ملک میں کٹا کتے ہیں کوئی اوپلاکتا ہے۔ اس کو نان بائی تنور میں ڈال دیتا ہے پھر وہ سُرخ ہو جاتا ہے اور سارا تنور روشن ہو جاتا ہے اور اس سے تندوری روٹی پک جاتی ہے۔ کیونکہ گوبر خشک ہو کر پاک ہو گیا پھر آگ بن کر لال ہو گیا اس نے روٹی بھی پکادی اور روشنی بھی پیدا کر دی۔ تو یہ کس کا فیض ہے؟ اللہ کی ادنیٰ مخلوق سورج کا یہ اثر ہے کہ گوبر اور نجاست کو یہ مقام ملا کہ پاک ہو گئی۔

## آفتاب ظاہری کا اثر نجاستوں پر

یہ تو گوبر کا خشک حصہ تھا لیکن سورج کی شعاعوں سے جب عمدہ زمین گرم ہو تو اس نے گوبر کا سیال، پتلا اور لیکوئیٹ حصہ چسپا لیا جو کھاد بن گیا۔ اب اسی کھاد سے گلاب اور چنبیلی سوسن وریحان، خوشبو اور بیلا پیدا ہو رہا ہے تو مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اے خدا آپ کی مخلوق سورج کی شعاعوں میں یہ اثر ہے کہ نجاستِ غلیظہ کے ایک حصے کو تنور میں روشن کر دیتی ہے اور ایک حصہ کو گلاب اور چنبیلی بنا دیتی ہے جب آپ کے ظاہری سورج کی شعاعوں میں یہ تاثیر ہے تو آپ کے کرم کا سورج جس پر چمک جاتے اس کے اخلاق روئیلہ کا کیا عالم ہوگا۔ اس کے تقاضوں کی نجاستوں کا کیا عالم ہوگا۔ اس کے اخلاقِ ذلیلہ اور تقاضائے گناہ کیوں نہ ایک دم میں اخلاقِ حمیدہ اور ذوقِ عبادت سے تبدیل ہو جائیں گے۔ آہ! پھر یہ شعر مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے

آفتاب بر حد شامی زند

اے خدا آپ کا آفتاب آسمانی ظاہری نجاستوں پر اثر کرتا ہے اور سے

لطف عام تو نمی جوید سند

آپ کا لطف عام قابلیت نہیں تلاش کرتا اگر قابلیت تلاش کرتا تو آپ کے آسمان کا سورج نجاستوں پر اثر نہ کرتا۔ سورج کتنا کہ میری شمعوں کا تو ہیں اور میری شمعوں کا عظمت کے خلاف ہے کہ میں پاخانہ پر اپنا اثر ڈالوں۔ اپنی رفتار بدل دیتا۔

### آفتات رحمت حق کا اثر باطنی نجاستوں پر

لیکن لے خدا جب آپ کا آسمان والا سورج نجاستوں کو سوسن و گلاب و چنبیلی بنا رہا ہے اور تنور میں روشن کر کے روٹی پکا رہا ہے تو آپ کے کرم کا سورج کیسا ہوگا جب آپ کی مخلوق سورج، آپ کی ادنیٰ بھیک کا یہ حال ہے تو آپ کے کرم کی بھیک کا کیا عالم ہوگا اور بھیک دینے والے کے کرم کا کیا عالم ہوگا۔ جس کے دل کی نجاستوں پر جس کے دل کے گندے گندے تقاضوں پر آپ کی رحمت اور کرم کی شعاع پڑ جاتے پھر اس کے وہی تقاضے اور ردائل نور تقویٰ بن جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنی عطا کے لیے سند نہیں چاہتے، وہ خود قابلیت دے دیتے ہیں مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب جانوروں کے گوبروں اور نجاستوں کو اللہ تعالیٰ خلعت کُل اور خلعت نور عطا کر رہے ہیں۔

چل جیشاں را چنیں خلعت دہی

لے اللہ جب آپ نعیمت نجاستوں کو خلعت، یہ پوشاک اور یہ لباس عطا کر رہے

ہیں، گلاب و چنبیلی کا لباس، روشنی و نور کا لباس تو ہے

من چہ گویم طیبیں را چہ دہی

تو لے اللہ آپ اپنے پاک بندوں کو کیا کچھ عطا فرماتے ہوں گے جلال الدین رومیؒ اس کے بیان سے قاصر ہے۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ آپ کے کرم کا سورج اللہ والوں پر اور اللہ کے دین پر چلنے والوں پر، سالکین اور مریدین کے دلوں پر، ان کے آہ و نالوں پر کیا کیا نعمتیں برساتا ہے۔

## نسبت مع اللہ کے آثار

جب آپ کے کرم کا سورج ان پر طلوع ہوتا ہے تو اخلاق رذیلیہ اخلاق حمیدہ سے بدل جاتے ہیں۔ وہی محبت جو مرنے والی لاشوں پر فدا ہو رہی تھی، وہی محبت اب سجدوں میں اللہ پر فدا ہو رہی ہے، وہی محبت بصورت سبحان ربی الاعلیٰ اللہ کے قدموں میں اپنا سر رکھے ہوتے ہے جو سب سے بڑے ہیں، جو خالق سر ہیں۔ عزت اسی کی ہے جو خالق سر کے قدموں میں سر رکھ دے۔ جس سر نے خالق سر کے قدموں میں سر رکھ دیا اس کے سارے ہو گئے پھر اس کی کوئی مشکل قائم نہیں رہ سکتی۔ کیونکہ سب سے بڑے کے قدموں میں سر آ گیا۔ اب ساری مشکل اس کی سر ہو گئی۔

## نور تقویٰ کیسے پیدا ہوتا ہے؟

تو دوستو! یہ عرض کر رہا ہوں۔ چند دن کا معاملہ ہے تھوڑی سی ہمت کر لیجئے اور بڑی ہمتی نہ کیجئے یعنی گناہ کے تقاضوں پر عمل نہ کیجئے۔ جس طرح سورج جنگل کے گوبروں کو سکھا کر اوپلا اور مددہ زمین کو گرم کر کے اس کے لیکوٹید کو کھا دیتا ہے اسی طرح گناہوں کے تقاضوں کو مجاہدہ کے سورج کی شعاعوں سے سوکھنے دو۔ یعنی تقاضوں پر عمل نہ کرو

تو ایک دن نور تقویٰ پیدا ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی گوبر کو سوکھنے ہی نہ دے اور روزانہ بیل اس پر تازہ گوبر کر دے تو جو حصہ سورج نے خشک کیا تھا وہ پھر نرم ہو جائے گا اور خشک نہیں ہونے دے گا اور معدہ زمین جو گرم ہوا تھا چوسنے کے لیے وہ پھر ٹھنڈا ہو جائے گا اور سورج کی شعاعوں کی ساری نعمت ضائع ہو جائے گی۔ ایسے ہی بعض لوگ بد پرہیزی کر کے اپنے شیخ کی محنتوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ **وَاللّٰهُ الْمُسْتَكِي** اور اللہ تعالیٰ ہی سے سیرہی فریاد ہے۔

### فلاح کے معنی

اور آیت پاک کا ترجمہ یہ ہے **قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّهَا** جس نے اپنا تزکیہ کر لیا اس کو دونوں جہاں کی فلاح مل گئی وہ دونوں جہاں پا گیا، دُنیا بھی پا گیا آخرت بھی۔ کیونکہ فلاح کے معنی ہی یہ ہیں **جَهَنَّمَ خَيْرَ الدِّينِ وَالْ دُّنْيَا** پوری دُنیا کی فلاح پوری آخرت کی فلاح۔ دونوں جہاں پا گیا وہ جس نے اپنا تزکیہ کر لیا اور منرک کا حکم مان لیا، جو تزکیہ کرنے والا شیخ ہے اس کا حکم مان لیا۔ شیخ جیسے کہے ویسے کر لو۔ نہ خاندان دیکھو نہ پان دان دیکھو۔ جان دے دو۔ انشا۔ اللہ یہی خاندان تمہاری جیتیاں اٹھائے گا۔ بس دُعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔

اے اللہ رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ میں میرے اس وعظ کو قبول فرما اور اس وعظ کو قبول فرما کہ یا اللہ واعظ کو بھی اور جتنے سامعین ہیں ان سب کو میری زبان کو میرے دوستوں کے کانوں کو قبول فرما کہ ہم سب کو مجسم کلمہ قبول فرما اور اپنی رحمت سے ہمارے سینوں سے مجرم دل کو نکال کر لے خدا اس مجرم دل کو اللہ والادل بنا دے۔ تقویٰ والادل بنا دے۔ آپ تو قادر ہیں کہ آگ کو پانی کر دیں پانی کو آگ کر دیں۔ خوشی کو غم کر

دیں غم کو خوشی کر دیں۔ ہمارے دل کو درد بھرا دل عطا فرما دیں اور اللہ والادل عطا فرما دیں۔  
 سلامتی اعضا اور سلامتی ایمان کے ساتھ حیات نصیب فرمائیے۔ سلامتی اعضا اور سلامتی  
 ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھاتے یہ دعا ہمارے لیے ہمارے بچوں کے لیے آپ سب  
 کے لیے آپ کے بچوں کے بچوں کے لیے گھر والوں کے لیے یا اللہ سارے عالم کے  
 مسلمانوں کے لیے قبول فرمایا رب العالمین ہم سب کو اپنے اولیائے صدیقین کی جہ آخری  
 سرحد ہے یعنی نسبت اولیائے صدیقین وہ اختر کو اس کی اولاد کو گھر والوں کو اس کے رشتہ  
 داروں کو اور میرے سارے سامعین حضرات کو ان کے گھر والوں کو یا اللہ اپنی رحمت سے  
 نسبت اولیائے صدیقین عطا فرما دے۔ اور ایک دعا آج کل اختر مانگ رہا ہے آپ  
 سب سے آمین کی درخواست کرتا ہوں کہ اے خدا ہم سب کو ایسا ایمان ایسا یقین عطا فرما  
 دے کہ ہماری زندگی ہر سانس آپ پر فدا ہو اور ایک سانس بھی ہم آپ کو ناراض نہ کریں  
 ایسی محبت اپنی عطا فرما دیجئے، ایسا جذبہ عطا فرما دیجئے، ایسی عظیم ہمت عطا فرما دیجئے کہ اے  
 خالق حیات اے ہماری زندگی کے پیدا کرنے والے اور ہماری زندگی کو باقی رکھنے والے  
 اور ہماری زندگی کو پالنے والے اپنی رحمت سے ہماری زندگی کے اندر ایسا ایمان اور یقین  
 بھر دیتے کہ ہماری زندگی کی ہر نینس آپ کی رضا اور خوشی کے اعمال پر فدا ہو اور آپ کو ایک سانس  
 بھی ہم ناراض نہ کریں یعنی آپ کی نافرمانی میں ایک سانس بھی مبتلا نہ ہوں۔ اگر کبھی خطا ہو جائے  
 تو اے اللہ توفیق توبہ سے سجدہ گا ہوں کو آنسوؤں سے تر کر کے نہایت ہی ندامت کے ساتھ  
 توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ ہماری دنیا آخرت سب بنا دیجئے۔ **وَ اٰخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ  
 لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهِ وَ صَحْبِهِ اَجْمَعِيْنَ بِرَحْمَتِكَ  
 يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ۔**

## زندگی کے رونق

گئی وہ بھول جمال رُخِ مہ و انجم  
مری نظر جو رُخِ آفتاب سے گزری  
یہ کائنات ایسے تینکٹ تھئی ہر سعت  
کوئی حیات جو اس کے عتاب سے گزری

عارف اللہ صاحبی کے تراکیب سے لیا گیا ہے۔

## جمع ضعیفین خوشی عزم

رضائے دوست کی خاطر یہ حوصلے ان کے

دلوں پہ زخم ہیں پھر بھی یہ مسکراتے ہیں

عجیب مظہر اصداد ہیں ترشے عاشق

خوشی میں روتے ہیں اور غم میں مسکراتے ہیں

عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب مدظلہ العالی